



سوال

(125) طہر کے ایام میں سفید پانی کا آنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

طہر کے ایام میں بعض اوقات کچھ عورتوں کو سفید پانی سا آنے لگتا ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مردیا عورت کے سبیلین (قبل ودبر) سے کسی بھی قسم کی کوئی رطوبت خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

وإن کنتم مرضیٰ أو علی سفرٍ أو جاء أحدٌ منکم من الغائطِ أو لمستم النساءِ فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهکم وأيديکم منہ ... ۱ ... سورة المائدة

”اور اگر تم بیمار ہو، یا سفر میں، یا کوئی قضا نے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مساس کیا ہو، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے لپٹے پھرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ وضو کر لے۔“ (صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغیر طہور، حدیث: 135 و صحیح مسلم، کتاب الطہارة، باب وجوب الطہارة للصلاة، حدیث: 225-) اور یہ حدیث صحیح اور مستقیم علیہ ہے۔ حدیث کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو قبل ودبر سے خارج ہو پشاب پانخانہ وغیرہ، ان کے علاوہ ریح پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے مگر ریح سے صرف وجہ لازم آتا ہے۔ اور پشاب پانخانہ وغیرہ کی صورت میں وضو سے پہلے استنجہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور وضو میں چہرہ، دونوں بازو، سر اور کان کا مسح اور دونوں پاؤں کا دھونا واجب ہے، جو قرآن کریم اور سنت مطہرہ کے ظاہر سے ثابت ہے۔

اور خروج ریح کے علاوہ اونٹ کا گوشت کھانا، یزند آجانا جس سے بے ہوشی ہو جائے اور ہاتھ سے شرمگاہ کو ہتھونے سے بھی وضو واجب ہوتا ہے مگر استنجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور شرمگاہ کو ہتھونے میں آدمی خواہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے یا دوسرے کی شرمگاہ کو مثلاً بیوی یا بچہ بچی وغیرہ (تو اس سے وضو کرے۔) [1] اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔

[1] یہ فتویٰ احتیاط اور افضلیت کے طور پر ہے۔ جبکہ کچھ علماء بچے بچی کو استنجہ کرانے کی صورت میں وضو ضروری نہیں کہتے، جیسے کہ پیچھے گزرا ہے۔ (مترجم)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 167

محدث فتویٰ